



دورہ آسٹریلیا، نوجوان کھلاڑیوں کے لیے کارکردگی دکھانے کا بہترین موقع

- رفتار میری خوبی ہے، وقار یونس اور شعیب اختر کی طرح انٹرنیشنل کرکٹ میں دبنگ انٹری دینا چاہتا ہوں، موسیٰ خان قومی اسکواڈ میں شمولیت خواہوں کی تعبیر ہے، آسٹریلیا میں رفتار کے ساتھ سوئنگ کا بہترین مظاہرہ کروں گا، نسیم شاہ
- گگلی میرے والد کی میراث ہے اور میں اس فن کو آگے لے کر جاؤں گا، لیگ اسپنر عثمان قادر
- موقع ملا تو انٹرنیشنل کرکٹ میں بھی عمدہ کارکردگی کا تسلسل برقرار رکھوں گا، خوشدل شاہ
- نوجوان کھلاڑیوں کی نرسری، نیشنل کرکٹ اکیڈمی کا موسیٰ خان اور نسیم شاہ کی قومی اسکواڈ میں شمولیت میں اہم کردار

لاہور، 22 اکتوبر 2019ء:

دورہ آسٹریلیا کے لیے منتخب کردہ قومی اسکواڈ میں چند اہم تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ اسلام آباد سے تعلق رکھنے والے 19 سالہ موسیٰ خان کو قومی ٹی ٹونٹی اور ٹیسٹ اسکواڈ زمیں شامل کر لیا گیا ہے جبکہ لاہور سے تعلق رکھنے والے 16 سالہ فاسٹ باؤلر نسیم شاہ کو طویل دورانیے کی کرکٹ میں آزمانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔

قومی ٹی ٹونٹی اسکواڈ میں بھی 2 نوجوان کھلاڑیوں کی انٹری ہوئی ہے۔ لیگ اسپنر عثمان قادر اور مڈل آرڈر بلے باز خوشدل شاہ بابر اعظم کی قیادت میں 26 اکتوبر کو سڈنی کے لیے اڑان بھریں گے۔

نوجوان کھلاڑی نسیم شاہ اور موسیٰ خان فاسٹ باؤلرز شاہین شاہ آفریدی اور محمد حسنین کی طرح نیشنل کرکٹ اکیڈمی کی پرائیکٹس ہیں۔ دونوں کھلاڑیوں کی صلاحیتوں اور کارکردگی میں نکھار لانے کے لیے نیشنل کرکٹ اکیڈمی کے کوچز نے سخت محنت کی۔

جو این سی اے کی نوجوان کھلاڑیوں کی تربیت میں اہم کردار کی ضمانت دیتی ہے۔

طویل اور محدود دونوں طرز کی کرکٹ کے لیے سلیکٹرز کا اعتماد حاصل کرنے والے موسیٰ خان نے گذشتہ سال اے سی سی ایمرجنگ ٹیمز ایشیا کپ کے 2 میچوں میں 3 وکٹیں حاصل کیں۔ فاسٹ باؤلر 7 فرسٹ کلاس میچوں میں 17 وکٹیں بھی حاصل کرچکے ہیں۔

قائد اعظم ٹرافی 2019-20 کے 4 میچوں میں موسیٰ خان نے 5 وکٹیں حاصل کیں۔ 8 ٹی ٹونٹی میچوں میں 12 وکٹیں حاصل کرنے والے موسیٰ خان کورونا سال ایچ بی ایل پی ایس ایل کے 7 میچوں میں اسلام آباد یونائیٹڈ کی نمائندگی کرنے کا اعزاز حاصل ہے۔ اس کے علاوہ 19 سالہ فاسٹ باؤلر نے فیصل آباد میں جاری نیشنل ٹی ٹونٹی کپ کے ایک میچ میں 4 کھلاڑیوں کو پولین کی راہ دکھائی۔

موسیٰ خان:

نوجوان فاسٹ باؤلر موسیٰ خان کا کہنا ہے کہ قومی کرکٹ ٹیم میں منتخب ہونے پر وہ بہت پر جوش ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آسٹریلیا، کرکٹ میں ایک بڑا نام ہے اور ان کے ذہن میں اسٹیو سمتھ یا ڈیوڈ وارنر نہیں بلکہ اپنی تیز رفتار باؤلنگ کا جنون سوار ہے۔

145 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گیند کرنے والے نوجوان فاسٹ باؤلر کا ماننا ہے کہ تیز رفتار باؤلنگ ان کی خوبی ہے۔ موسیٰ خان کا کہنا ہے کہ وقار یونس اور شعیب اختر ان کے آئیڈیل باؤلر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ بین الاقوامی کرکٹ میں ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حریف کھلاڑیوں پر اپنا خوف طاری کر دیں گے۔

قومی ٹیسٹ اسکواڈ میں شامل دوسرے تیز ترین باؤلر نسیم شاہ ہیں۔ 16 سالہ نوجوان کرکٹر نسیم شاہ درجہ بدرجہ مختلف ایچ گروپ میں پاکستان کی نمائندگی کرنے کے بعد اعلیٰ ترین اسکواڈ میں شامل ہوئے ہیں۔ قومی انڈر 16، انڈر 19، ایمرجنگ اور پھر ڈومیسٹک کرکٹ میں اپنے باؤنسرز سے حریف ٹیموں کو خوف کا شکار کرنے والے نسیم شاہ کو دورہ آسٹریلیا کے لیے قومی ٹیسٹ ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔

پی سی بی پیپسی اسٹارز انڈر 16 ایک روزہ ٹورنامنٹ کی دریافت نسیم شاہ نے 13 سال کی عمر میں ایونٹ میں شرکت کی۔ اپنے پہلے ہی میچ میں 4 وکٹیں حاصل کرنے والے نسیم شاہ ہر سطح کی کرکٹ میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرچکے ہیں۔ نسیم شاہ نے قومی انڈر 16 کرکٹ ٹیم کی نمائندگی کرتے ہوئے آسٹریلیا کے خلاف 2 ٹی ٹونٹی میچوں میں 3 وکٹیں حاصل کی تھیں۔ نوجوان فاسٹ باؤلر نسیم شاہ نے گذشتہ سال اے سی سی

ایمرجنگ ٹیمز ایشیا کپ کے 3 میچوں میں 6 کھلاڑیوں کو پولین کی راہ دکھائی۔

محض 5 فرسٹ کلاس میچوں میں 17 وکٹیں حاصل کرنے والے نسیم شاہ کی ڈومیسٹک کرکٹ میں بہترین باؤلنگ ایک اننگز میں 59 رنز کے عوض 6 کھلاڑیوں کو آؤٹ کرنا ہے۔ انہوں نے قائداعظم ٹرافی کے پہلے مرحلے میں 3 میچوں میں 9 وکٹیں حاصل کر رکھی ہیں۔ قومی کرکٹ ٹیم کے چیف سلیکٹر اور ہیڈ کوچ مصباح الحق نے نسیم شاہ اور موسیٰ خان کی دورہ آسٹریلیا میں شمولیت کو جرات مندانہ فیصلہ قرار دیا ہے۔

نسیم شاہ:

16 سالہ فاسٹ باؤلر کا کہنا ہے کہ قومی اسکواڈ میں شمولیت ان کے خوابوں کی تعبیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر پروفیشنل کرکٹر ساری زندگی یہ دن دیکھنے کے لیے محنت جاری رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قومی کرکٹ ٹیم کے باؤلنگ کوچ وقار یونس نے ہمیشہ انہیں اپنی اسٹریٹھ پر باؤلنگ کرنے کی ہدایت کی، دورہ آسٹریلیا میں بھی وہ اسی نسخے پر عمل کریں گے۔

نسیم شاہ کا کہنا ہے کہ انہیں وسیم اکرم، وقار یونس اور شعیب اختر کی ویڈیوز دیکھ کر حوصلہ ملتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ رفتار کے ساتھ سوئنگ پر عبور رکھتے ہیں، طویل فارمیٹ میں آسٹریلیا کو ان کے ہوم گراؤنڈ میں ٹف ٹائم دیں گے۔

فاسٹ باؤلر نسیم شاہ کا کہنا ہے کہ ان کی جارحانہ حکمت عملی سے قومی کرکٹ ٹیم کے لیے مثبت نتائج سامنے آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ آسٹریلیا کی کنڈیشنز اور پچز پر باؤلنگ کرنا ان کے لیے مفید تجربہ ہوگا۔

اسپن ڈیپارٹمنٹ کی مضبوطی کے لیے قومی ٹی ٹونٹی اسکواڈ میں ایک نیا اضافہ کیا گیا ہے۔ مرحوم لیجنڈری کرکٹر عبدالقادر کے صاحبزادے 26 سالہ اسپنر عثمان قادر کو قومی ٹی ٹونٹی اسکواڈ میں شامل کر لیا گیا ہے۔ لاہور سے تعلق رکھنے والے عثمان قادر آسٹریلیا کی بگ بیش لیگ میں پرتھ اسکورچرز کی نمائندگی کر چکے ہیں۔

اقبال اسٹیڈیم فیصل آباد میں جاری نیشنل ٹی ٹونٹی کپ میں اسپنر عثمان قادر 7 سے بھی کم اکانومی ریٹ کے ساتھ 4 وکٹیں حاصل کر چکے ہیں۔

عثمان قادر:

عثمان قادر کا کہنا ہے کہ وہ قومی ٹی ٹونٹی اسکواڈ میں شمولیت پر بہت خوش ہیں۔

آسٹریلیا کی بگ بیش لیگ میں پرتھ اسکورچرز کی نمائندگی کرنے والے عثمان قادر کا کہنا ہے کہ انہیں آسٹریلوی کنڈیشنز اور پچز کا اندازہ ہے، وہ سلیکشن کمیٹی اور ہیڈ کوچ کے اعتماد پر پورا اترنے کی کوشش کریں گے۔

لیگ اسپنر نے کہا کہ گگلی ان کے والد کی ایجاد ہے اور وہ اس فن کو آگے لے کر جائیں گے۔ عثمان قادر نے کہا کہ انہوں نے اپنے والد سے جو کچھ سیکھا اب وہ سب ڈیلیور کرنے کا وقت ہے۔ عثمان قادر نے کہا کہ جب وہ سب چھوڑ کر آسٹریلیا جا رہے تھے تو ان کے والد نے انہیں سبز کیپ حاصل کرنے کی تلقین کی، آج قومی ٹی ٹونٹی کرکٹ ٹیم کی شمولیت ان کے لیے فخر کی بات ہے۔

عثمان قادر نے کہا کہ انہیں لیگ اسپن، گگلی اور فلپر پر خاص عبور حاصل ہے۔ آسٹریلوی سرزمین پر یہ تین گیندیں حریف کھلاڑیوں کے لیے مشکلات کا باعث بنیں گی۔

بنوں سے تعلق رکھنے والے 24 سالہ بلے باز خوشدل شاہ اقبال اسٹیڈیم فیصل آباد میں جاری قومی ٹی ٹونٹی کپ میں خیبرپختونخوا کی نمائندگی کرتے ہوئے 160 سے زائد اسٹرائیک ریٹ کے ساتھ 93 رنز بنا چکے ہیں۔ ڈومیسٹک کرکٹ میں چھکوں کی برسات کرنے والے خوشدل شاہ اپنے لسٹ اے کیرئیر میں 82 اور ٹی ٹونٹی کرکٹ میں 29 چھکے جڑ چکے ہیں۔ وہ لسٹ اے اور ٹی ٹونٹی کرکٹ میں بالترتیب 151 اور 43 چوکے بھی لگا چکے ہیں۔

آسٹریلیا کے خلاف قومی ٹی ٹونٹی اسکوآڈ میں شامل جارحانہ مزاج بلے باز خوشدل شاہ ٹی ٹونٹی کرکٹ کے 33 میچوں میں 5 نصف سنچریوں کی مدد سے 630 رنز بنا چکے ہیں۔ مڈل آرڈر بلے باز کا ٹی ٹونٹی کرکٹ میں سب سے زیادہ اسکور 65 رنز ہے۔

خوشدل شاہ:

بائیں ہاتھ کے بلے باز خوشدل شاہ کا کہنا ہے کہ قومی ٹی ٹونٹی اسکوآڈ میں شمولیت ان کے لیے فخر کا باعث ہے۔ ڈومیسٹک کرکٹ میں شاندار کارکردگی کا ریکارڈ رکھنے والے مڈل آرڈر بلے باز خوشدل شاہ کا کہنا ہے کہ وہ انٹرنیشنل کرکٹ میں عمدہ کارکردگی کا تسلسل برقرار رکھیں گے۔

خوشدل شاہ کا کہنا ہے کہ جارحانہ بلے بازی ان کا قدرتی کھیل ہے اور وہ اسی سوچ کے ساتھ آسٹریلوی میدانوں میں اتریں گے۔ مڈل آرڈر بیٹسمین نے کہا کہ وہ ڈومیسٹک کرکٹ میں محمد رضوان، افتخار احمد اور فخر زمان کے ساتھ ایک ہی ٹیم میں کھیلتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سینئرز کی بھرپور رہنمائی کے ساتھ وہ ڈومیسٹک کے بعد اب انٹرنیشنل کرکٹ

میں بھی بہترین کارکردگی کا عزم لیے سٹنی روانہ ہوں گے۔

اسکواڈز:

16 رکنی قومی ٹی ٹونٹی کرکٹ ٹیم:

بابراعظم (کپتان) (سنٹرل پنجاب)، آصف علی (ناردرن)، فخر زمان (خیبرپختونخوا)،
حارث سہیل (بلوچستان)، محمد حسنین (سندھ)، افتخار احمد (خیبرپختونخوا)، عماد وسیم
(ناردرن)، امام الحق (بلوچستان)، خوشدل شاہ (خیبرپختونخوا)، محمد عامر (ناردرن)،
محمد عرفان (سدرن پنجاب)، محمد رضوان (وکٹ کیپر) (خیبرپختونخوا)، موسیٰ خان
(ناردرن)، شاداب خان (ناردرن)، عثمان قادر (سنٹرل پنجاب) اور وہاب ریاض (سدرن
پنجاب)۔

16 رکنی قومی ٹیسٹ کرکٹ ٹیم:

اظہر علی (کپتان) (سنٹرل پنجاب)، بابراعظم (سنٹرل پنجاب)، عابد علی (سندھ)، اسد شفیق
(سندھ)، حارث سہیل (بلوچستان)، افتخار احمد (خیبرپختونخوا)، عمران خان سینئر
(خیبرپختونخوا)، امام الحق (بلوچستان)، کاشف بھٹی (سندھ)، محمد عباس (سدرن پنجاب)،
محمد رضوان (وکٹ کیپر) (خیبرپختونخوا)، موسیٰ خان (ناردرن)، نسیم شاہ (سنٹرل
پنجاب)، شاپین شاہ آفریدی (ناردرن)، شان مسعود (سدرن پنجاب) اور یاسر شاہ
(بلوچستان)۔

شیڈول:

31 اکتوبر: کرکٹ آسٹریلیا الیون کے خلاف ٹی ٹونٹی ورام اپ میچ

3 نومبر: پہلا ٹی ٹونٹی میچ بمقام سٹنی

5 نومبر: دوسرا ٹی ٹونٹی میچ ا

8 نومبر: تیسرا ٹی ٹونٹی میچ

11 تا 13 نومبر: تین روزہ ورام اپ میچ

15 تا 16 نومبر: دوروزہ ورام اپ میچ

21 تا 25 نومبر: پہلا ٹیسٹ میچ

29 نومبر تا 3 دسمبر: دوسرا ٹیسٹ میچ (ڈے اینڈ نائٹ)

– ENDS –

Media contact:

Ibrahim Badees Muhammad

Editor – Urdu Content

Media and Communications

E: ibrahim.badees@pcb.com.pk

M: +92 (0) 345 474 3486

W: www.pcb.com.pk

ABOUT THE PCB

The Pakistan Cricket Board (PCB) is the sole governing body for the game of cricket in Pakistan. Its goal is to work in partnership with its stakeholders to promote, develop and grow the game throughout the country.

The PCB's purpose is to maintain and enhance the reputation and integrity of the game, fostering excellence and upholding the spirit of the game. The PCB selects junior and senior national men's and women's cricket teams to represent the country on the global stage, runs high performance cricket centres across the country and plans and organises domestic competitions and international bi-lateral series.

The PCB is committed to developing ground and facility infrastructure, monitoring the implementation of playing codes and regulations, and supporting the game at every level through its high quality training provision for officials and coaches.

Commercial Partners



www.pcb.com.pk ●
@therealpcb ●
@PakistanCricketBoard ●
@PakistanCricketOfficial ●
@therealpcb ●

PCB Headquarters
Gaddafi Stadium
Ferozpur Road, Lahore
Pakistan, PO Box 54000
T: +92 42 3571 7231-4